

## پریس ریلیز

### پاکستان میں عورتوں کے خلاف تشدد کے واقعات

رپورٹ: تیسری سہ ماہی (جولائی تا ستمبر) 2008 ۱۳ نومبر اسلام آباد

عورت فاؤنڈیشن نے پاکستان میں عورتوں کے خلاف تشدد کی صورت حال سے متعلق اپنی سہ ماہی رپورٹ ۲۰۰۸ اسلام آباد پریس کلب میں منعقدہ ایک کانفرنس میں جاری کر دی۔ رپورٹ ماہ جولائی تا ستمبر 2008 میں خواتین کے خلاف تشدد کے ہونے والے واقعات پر جمع کردہ اعداد و شمار پر مشتمل ہے۔ جو کہ عورت فاؤنڈیشن کے قومی پروگرام پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کے اعداد و شمار کا تجزیہ اور پالیسی مرتب کرتا ہے۔ خواتین کے خلاف تشدد پاکستان اور دنیا بھر میں روزمرہ مسائل میں شامل ہے۔ یہ خواتین کی معاشی و معاشرتی برابری، جسمانی اور ذہنی نشوونما، خوشحالی، معاشی تحفظ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پالیسی بنانے والوں کو معاشی مسائل کے حل کے لئے موثر رد عمل کا ادراک ہونا چاہیے۔ اس رپورٹ کا مقصد پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کی نشاندہی کرنا ہے۔ جس کا مقصد زیادہ معلوماتی اور مددگار ماحول اور معاشی دباؤ پیدا کرنا ہے۔ خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کے اعداد و شمار مستقبل میں بننے والی پالیسی اور قانونی اصلاحات کے سلسلے میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں، سیاسی جماعتوں اور قانون دانوں کو مصالحتی طریقہ کار، ترقیاتی پالیسیوں کے فریم ورک اور ادارتی نظام کے تحت خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمہ میں مددگار ثابت ہو سکے۔

تیسری سہ ماہی کے دوران پاکستان کے چاروں صوبوں اور اسلام آباد میں خواتین کے خلاف تشدد کے کل ۲۵۳۱ واقعات کی رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ جس میں سے ۱۵۹۲ واقعات پنجاب، ۲۰۲ سندھ، ۲۵۱ سرحد، ۲۲۰ بلوچستان اور ۶۶ اسلام آباد میں وقوع پزیر ہوئے۔ تقریباً تمام واقعات رپورٹ شدہ ہیں۔ جملہ ۲۵۳۱ واقعات میں سے ۱۹۵۳ کی FIR کاٹی گئی ہیں۔ یعنی ۷۷.۱۶٪ رجسٹرڈ کئے گئے۔ جملہ ۳۲۳ واقعات جو کہ ۱۳٪ بنتے ہیں رجسٹرڈ نہیں کیے گئے۔ اور بقایا ۲۶۵ یعنی ۱۵٪ واقعات کے متعلق FIR وغیرہ کی میڈیا میں بھی کوئی شہادت موجود نہیں۔ رپورٹ شدہ واقعات میں سے ۲۴۱ قتل کے واقعات ہیں جس میں سے ۲۲۲ پنجاب میں، ۵۰ سندھ میں، ۱۲۹ سرحد، ۱۸ بلوچستان اور ۲ واقعات اسلام آباد میں ہوئے ہیں۔ غیرت کے نام پر قتل کے ۱۴۳ واقعات میں سے ۲۱ پنجاب، ۷۰ سندھ، ۲ سرحد، ۴۹ بلوچستان اور ایک اسلام آباد میں ہوا۔ اقدام قتل کے ۳۸ واقعات میں سے ۸ پنجاب، ۱۱ سندھ، ۲ صوبہ سرحد، ۶ بلوچستان اور ایک اسلام آباد میں رپورٹ ہوئے۔ اغوا کے کل ۶۰۱ واقعات میں سے ۵۰۸ پنجاب، ۳۱ سندھ، ۱۷ صوبہ سرحد، ۱۷ بلوچستان اور ۲۸ اسلام آباد میں رپورٹ کئے گئے۔ جسمانی ایذا رسانی کے ۲۸۲ واقعات میں سے ۱۲۰ پنجاب، ۲۱ سندھ، ۵۱ صوبہ سرحد، ۸۷ بلوچستان اور ۳۷ اسلام آباد میں رپورٹ ہوئے۔ گھریلو تشدد کے کل ۷۵ واقعات میں سے ۴۲ سندھ، ۱۷ صوبہ سرحد، ۱۳ بلوچستان اور ایک اسلام آباد میں رپورٹ ہوا۔ خودکشی کے کل ۲۷ واقعات میں سے ۳۵ پنجاب، ۵ صوبہ سرحد، ۷ بلوچستان میں رپورٹ ہوئے۔ ریپ کے کل ۱۷۵ واقعات میں سے ۱۲۷ پنجاب، ۴۲ سندھ، ایک صوبہ سرحد، ایک بلوچستان اور ۲ اسلام آباد میں رپورٹ ہوئے۔ گینگ ریپ کے کل ۱۱۵ واقعات میں سے ۱۰۰ پنجاب، ۱۳ سندھ، ۲ اسلام آباد میں رپورٹ ہوئے۔ جنسی ہراساں کرنے کے ۳۶ واقعات میں سے ۳۱ پنجاب، ۱۳ سندھ، ایک بلوچستان، ایک اسلام آباد میں رپورٹ ہوا۔ حراستی تشدد کے ۲۶ واقعات میں سے ۲۴ سندھ اور ۲ اسلام آباد میں رپورٹ ہوئے۔ جلنے کے ۷ واقعات میں سے ۶ پنجاب اور ایک سندھ میں رپورٹ ہوا۔ تیزاب پھینکنے کے ۸ واقعات میں سے ۷ پنجاب اور ایک اسلام آباد میں رپورٹ ہوئے۔ عورتوں کی تجارت کے ۱۰۹ واقعات میں سے ۹۵ پنجاب، ایک صوبہ سرحد، ۸ بلوچستان، ۱۵ اسلام آباد میں رپورٹ ہوئے۔ تشدد کی دھمکیوں کے ۹۹ واقعات میں سے ۲ سندھ اور ۷۷ اسلام آباد میں رپورٹ ہوئے۔ ونی کا ایک واقعہ صوبہ سرحد جبکہ تشدد کے مختلف نوعیت کے ۱۹۲ واقعات چاروں صوبوں اور اسلام آباد میں رپورٹ ہوئے۔

عورتوں کے خلاف تشدد کے واقعات کی تعداد کی نوعیت اس سہ ماہی میں (۲۵۳۱) گزشتہ دو سہ ماہیوں (۱۷۰۵ اپریل تا جون اور ۱۳۲۱ جنوری تا مارچ) کے مقابلہ میں کافی زیادہ ہوئے۔ اس سہ ماہی میں ان واقعات میں تیزی سے اضافہ پنجاب میں پایا گیا، جسکی خاص وجہ رپورٹ جمع کرنے کیلئے ۹ قومی اخبارات کے علاوہ فیصل آباد اور ملتان سے شائع ہونے والے دورہ بجیل اخبارات کو بھی شامل کیا گیا ہے جسکی وجہ سے اس سہ ماہی میں واقعات میں اضافہ گزشتہ دو سہ ماہیوں سے کافی زیادہ ہے۔

تیسری سہ ماہی رپورٹ میں اغوا کے ۶۰۱ واقعات گزشتہ دو سہ ماہیوں سے کافی زیادہ ہیں جبکہ پہلی سہ ماہی میں یہ ۲۴۶ اور دوسری میں ۳۵۶ تھے۔ جبکہ خودکشی کے واقعات میں بھی اس سہ ماہی میں کافی اضافہ ہوا جسکی تعداد ۲۱۶ ہے۔ جبکہ قتل کے واقعات بھی گزشتہ دو سہ ماہیوں کی نسبت کافی زیادہ ہیں جسکی تعداد ۴۴۱ ہے۔

پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کی تعداد، اوسط جولائی - ستمبر ۲۰۰۸

تشدد کی نوعیت	پنجاب	سندھ	سرحد	بلوچستان	اسلام آباد	کل تعداد	اوسط
قتل	۲۳۲	۵۰	۱۲۹	۱۸	۲	۴۳۱	۱۷.۴۲%
غیرت کے نام پر قتل	۲۱	۷۰	۲	۴۹	۱	۱۴۳	۵.۶۵%
اقدام قتل	۸	۱۱	۲	۱۶	۱	۳۸	۱.۵۰%
انگوا	۵۰۸	۳۱	۱۷	۱۷	۲۸	۶۰۱	۲۳.۷۵%
جسمانی ایذا رسانی	۱۲۰	۲۱	۵۱	۸۷	۳	۲۸۲	۱۱.۴۳%
گھریلو تشدد	۰	۴۴	۱۷	۱۳	۱	۷۵	۲.۹۶%
خودکشی	۱۳۷	۴۹	۲۴	۴	۲	۲۱۶	۸.۵۳%
اقدام خودکشی	۳۵	۰	۵	۷	۰	۴۷	۱.۸۶%
ریپ	۱۲۷	۴۴	۱	۱	۲	۱۷۵	۶.۹۱%
گینگ ریپ	۱۰۰	۱۳	۰	۰	۲	۱۱۵	۴.۵۴%
جنسی ہراسانی	۳۱	۱۳	۱	۰	۱	۴۶	۱.۸۲%
حراسی تشدد	۰	۲۴	۰	۰	۲	۲۶	۱.۰۳%
جلنے کے واقعات	۶	۱	۰	۰	۰	۷	۰.۲۸%
تیزاب پھینکنے کے واقعات	۷	۰	۰	۰	۱	۸	۰.۳۲%
عورتوں کی تجارت	۹۵	۰	۱	۸	۵	۱۰۹	۴.۳۱%
تشدد کی دھمکی	۰	۲	۰	۰	۷	۹	۰.۳۶%
وہی	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۴%
مختلف نوعیت کے تشدد	۱۵۵	۲۹	۰	۰	۸	۱۹۲	۷.۵۹%
کل تعداد	۱۵۹۲	۴۰۲	۲۵۱	۲۲۰	۶۶	۲۵۳۱	۱۰۰%

عورت فاؤنڈیشن اسلام آباد؛